

Jos

Chapter 6

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	וִירִיחוֹ	סְנֵרֶת	וּמִסְנֵרֶת	מִפְנֵי	בְּנֵי	יִשְׂרָאֵל	אֵין	יֹצֵא	וְאֵין	בָּא:	ס
	اور-یریحو	بند-تھا	اور-بند-کیا-ہوا	سامنے-سے	بیٹوں	اسرائیل-کے	نہیں	نکلنے-والا	اور-نہیں	آنے-والا	—
	H3405	H5462	H5462	H6440		H3478	H0369	H3318	H0369	H0935	

گیا۔ اندر کوئی نہ نکلا، باہر کوئی نہ رہے۔ ہی بند دروازے کے یریحو سے وجہ کی اسرائیلیوں میں دنوں اُن

2	וְיֵאמֹר	יְהוָה	אֶל-	יְהוֹשֻׁעַ	רָאָה	נָתַתִּי	בְּיַדְךָ	אֶת-	יְרִיחוֹ	וְאֶת-
	اور-کہا	یہوواہ-نے	سے-	یشوع	دیکھ	دیا-ہے-میں-نے	ہاتھ-تیرے-میں	کو-	یریحو	اور-کو-
	H0559	H3068	H0413	H3091	H7200	H5414	H3027	H0853	H3405	H0853

مَلְכָה	بְבוּרֵי	הַחֵיל:
بادشاہ-اُس-کے	بہادروں	طاقت-کے
H4428	H1368	H2428

ہے۔ دیا کر میں ہاتھ تیرے سمیت افسروں فوجی اور بادشاہ کے اُس کو یریحو نے [میں کہا، سے یشوع نے رب

3	וְסִבְתֶּם	אֶת-	הָעִיר	כָּל	אֲנָשֵׁי	הַמְּלָחָמָה	הַקִּיר	אֶת-	הָעִיר	פָּעַם	אֶחָת	כֹּה
	اور-چکر-لگاؤ	کو-	شہر-کے	سب	آدمی	جنگ-کے	گھیرتے-ہوئے	کو-	شہر-کو	مرتبہ	ایک	ایسے
	H5437	H0853		H3605	H0376	H4421		H0853		H6471	H0259	H3541

תַּעֲשֶׂה	נְשֵׂת	יָמִים:
کرنا	چھ	دنوں-تک
H8337		H3117

چھ جاؤ۔ آ واپس میں گاہ خیمہ پھر اور لگاؤ چکر ایک کر چل ساتھ ساتھ کے فصیل کی شہر ساتھ کے اُن گے نکلیں ساتھ تیرے لئے کے جنگ اسرائیلی جو کرو۔ ہی ایسا تک دن

4	וְשָׁבְעָה	כְּהָיִים	יִשְׂאֹ	שָׁבְעָה	שׁוֹפְרוֹת	הַיּוֹזְבָלִים	לְפָנַי	הָאֲרוֹן	וּבֵיּוֹם	הַשְּׁבִיעִי	תְּסַבּוּ
	اور-سات	کابنوں	اُٹھائیں	سات	نرسنگے	جوبلی-کے	آگے	صندوق-کے	اور-دن-میں	ساتویں	چکر-لگاؤ
	H7651	H3548	H5375	H7651	H7782	H3104	H6440	H0727	H3117	H7637	H5437

אֶת-	הָעִיר	שָׁבַע	פְּעָמִים	וְהַכְּהָנִים	יִתְקַעוּ	בְּשׁוֹפְרוֹת:
کو-	شہر-کے	سات	مرتبہ	اور-کابن	پھونکیں	نرسنگوں-میں
H0853	H7651	H6471	H3548	H8628	H7782	

رہیں۔ بجاتے نرسنگے امام ساتھ ساتھ لگاؤ۔ چکر سات گرد کے شہر دن ساتویں پھر چلیں۔ آگے آگے کے صندوق کے عہد اُٹھائے نرسنگا ایک ایک امام سات

5	וְהָיָה	וּבְמִנְשָׁה	בְּקֶרֶן	הַיּוֹזְבָל	[בשמעכם]	(כְּשִׁמְעֶכֶם)	אֶת-	קוֹל	הַשּׁוֹפָר
	اور-ہوگا	بجانے-پر	سینگ-میں	جوبلی-کے	سننے-وقت-تمہارے	سننے-وقت-تمہارے	کو-	آواز	نرسنگے-کی
	H1961	H4900		H3104	H8085	H8085	H0853		H7782

יְרִיעוּ	כָּל-	הָעָם	תְּרוּעָה	גְּדוּלָה	וְנִפְלָה	חֲזֹמֶת	הָעִיר	תַּחֲתֶיהָ	וְעָלוּ	הָעָם
لکاریں	سب-	لوگ	لکار	بڑی	اور-گر-جائے-گی	دیوار	شہر-کی	نیچے-اپنی	اور-چڑھیں	لوگ
H7321	H3605		H8643		H5307	H2346		H8478	H5927	

אִישׁ	נְדָדוּ:
آدمی	سامنے-اپنے
H0376	H5048

گی جائے گر فصیل کی شہر پر اِس لگائیں۔ نعرہ کا جنگ سے زور بڑے اسرائیلی تمام پھر تو گے ماریں پھونک سی لمبی بجاتے بجاتے کو نرسنگوں وہ جب گے۔ [سکیں ہو داخل میں شہر سیدھے جگہ ہر لوگ تیرے اور

6	וַיִּקְרָא	וְהוֹשַׁע	בֶּן-	נֹון	אֶל-	הַכְּהֵנִים	וַיֹּאמֶר	אֲלֵהֶם	שָׂאוּ	אֶת-	אֲרוֹן	הַבְּרִית
	اور-بلايا	يشوع-نے	بيٹے-	نون-کے	کو-	کابنوں	اور-کہا	ان-سے	اٹھاؤ	کو-	صندوق	عہد-کے
	H7121	H3091		H5126	H0413	H3548	H0559	H0413	H5375	H0853	H0727	H1285

وְשָׁבְעָה	כְּהֵנִים	יִשְׂאוּ	שָׁבְעָה	שׁוֹפְרוֹת	יִזְבְּלִים	לְפָנֵי	אֲרוֹן	יְהוָה:
اور-سات	کابن	اٹھائیں	سات	نرسنگے	جوبلی-کے	آگے	صندوق	یہوواہ-کے
H7651	H3548	H5375	H7651	H7782	H3104	H6440	H0727	H3068

آگے آگے کے صندوق اٹھائے نرسنگا ایک ایک امام سات اور چلیں۔ ساتھ میرے کر اٹھا صندوق کا عہد کے ر ب کہا، سے ان کر بلا کو اماموں نے نون بن يشوع چلیں۔

7	وַיֹּאמְרוּ	וַיֹּאמְרוּ	אֶל-	הָעָם	עֲבָרוּ	וְסָבוּ	אֶת-	הָעִיר	וְהַחֲלוּץ	יַעֲבֹר	לְפָנֵי
	اور-کہا	اور-کہا	سے-	لوگوں	گزرے	اور-چکر-لگاؤ	کو-	شہر-کے	اور-مسلح	گزرے	آگے
	H0559	H0559	H0413			H5437	H0853				H6440

اَروُن	يְהוָה:
صندوق	یہوواہ-کے
H0727	H3068

چلیں۔ آگے آگے کے صندوق کے رب آدمی مسلح لگائیں۔ چکر ایک کر چل ساتھ ساتھ کے فصیل کی شہر آئیں، کہا، سے لوگوں باقی نے اُس پھر

8	וַיְהִי	כַּאֲמֹר	וְהוֹשַׁע	אֶל-	הָעָם	וְשָׁבְעָה	הַכְּהֵנִים	נִשְׂאִים	שָׁבְעָה	שׁוֹפְרוֹת	הַיִּזְבְּלִים
	اور-ہوا	جب-کہا	يشوع-نے	سے-	لوگوں	اور-سات	کابن	اٹھانے-والے	سات	نرسنگے	جوبلی-کے
	H1961	H0559	H3091	H0413		H7651	H3548	H5375	H7651	H7782	H3104

لְפָנֵי	יְהוָה	עֲבָרוּ	וְתַקְעוּ	בְּשׁוֹפְרוֹת	וַיֹּאמְרוּ	בְּרִית	יְהוָה	הַלֹּךְ	אֲחֵרֵיהֶם:
آگے	یہوواہ-کے	گزرے	اور-پھونکا	نرسنگوں-میں	اور-صندوق	عہد	یہوواہ-کے	چلتا-ہوا	پیچھے-ان-کے
H6440	H3068		H8628	H7782	H0727	H1285	H3068	H1980	

تھا۔ پیچھے پیچھے کے اُن صندوق کا عہد کے رب جبکہ چلے آگے آگے کے رب ہوئے بجاتے نرسنگے امام سات ہوا۔ مطابق کے ہدایات کی يشوع کچھ سب

9	وְהַחֲלוּץ	הַלֹּךְ	לְפָנֵי	הַכְּהֵנִים	תַּקְעוּ	(תַּקְעוּ)	הַשׁוֹפְרוֹת	וְהַמְאַסֵּף	הַלֹּךְ	אֲחֵרֵי
	اور-مسلح	چلتا-ہوا	آگے	کابنوں-کے	پھونکنے-والے	پھونکنے-والے	نرسنگوں-کے	اور-پچھلا-دستہ	چلتا-ہوا	پیچھے
	H1980	H1980	H6440	H3548	H8628	H8628	H7782	H0622	H1980	

הָאֲרוֹן	הַלֹּךְ	וְתַקְעוּ	בְּשׁוֹפְרוֹת:
صندوق-کے	چلتے-ہوئے	اور-پھونکتے-ہوئے	نرسنگوں-میں
H0727	H1980	H8628	H7782

رے۔ بجاتے نرسنگے امام میں اتنے لگے۔ چلنے پیچھے پیچھے کے صندوق کچھ اور آگے آگے کے اماموں والے بجانے کچھ سے میں آدمیوں مسلح

10	וְאֶת-	הָעָם	צְנִיָּה	וְהוֹשַׁע	יֹאמְרוּ	לֹא	תִרְעוּ	וְלֹא-	תִשְׁמְעוּ	אֶת-	קוֹלְכֶם
	اور-کو-	لوگوں	حکم-دیا	يشوع-نے	کہتے-ہوئے	نہ	لکارو	اور-نہ-	سناؤ	کو-	آواز-اپنی
	H0853		H6680	H3091	H0559	H3808	H7321	H3808	H8085	H0853	

وְלֹא-	יִצָּא	מִפִּיכֶם	דְּבַר	עֵד	יוֹם	אֲמָרֵי	אֲלֵיכֶם	הָרִיעוּ	וְהָרִיעְתֶּם:
اور-نہ-	نکلے	منہ-تمہارے-سے	بات	تک	دن	کہنے-میرے	تم-سے	لکارو	اور-لکارنا
H3808	H3318	H6310	H1697	H5704	H3117	H0559	H0413	H7321	H7321

بولنا۔ نہ بھی لفظ ایک تک وقت اُس دوں نہ حکم میں تک ر ب کہا، نے اُس لگائیں۔ نہ نعرہ کا جنگ دن اُس کہ تھا دیا حکم کو لوگوں باقی نے يشوع لیکن لگانا۔ نعرہ خوب ہی پھر تو گا دوں اشارہ میں جب

11	וַיִּסָּב	אֲרוֹן-	יְהוָה	אֶת-	הָעִיר	הַקָּף	פָּעַם	אֶחָת	וַיִּבְאוּ	הַמַּחֲנֶה	וַיָּלִינוּ
	اور-گھمایا	صندوق-	یہوواہ-کے	کو-	شہر-کے	گھیرتے-ہوئے	مرتبہ	ایک	اور-آئے	خیمہ-گاہ-میں	اور-رے
	H5437	H0727	H3068	H0853			H6471	H0259	H0935	H4264	

בְּמַחֲנֶה:	פ
خیمہ-گاہ-میں	—
H4264	

گزارى-رات وہاں کر لوٹ میں گاہ خیمہ نے لوگوں بھر لگایا۔ چکر کر چل ساتھ ساتھ کے فصیل کی شہر نے صندوق کے رب طرح اسی

12	וַיִּשְׁכְּמוּ	יְהוֹשֻׁעַ	בִּבְקָר	וַיִּשְׁאֲוּ	הַכְּהֲנִים	אֶת־	אֲרוֹן	יְהוָה:
	اور-اُٹھا-صبح-سویرے	یشوع	صبح-کو	اور-اُٹھایا	کابنوں-نے	کو-	صندوق	یہوواہ-کے
	H7925	H3091	H1242	H5375	H3548	H0853	H0727	H3068

سات پھر آدمی، مسلح کچھ پہلے تھی۔ ترتیب وہی کی اُن لگایا۔ چکر کا شہر مرتبہ دوسری نے فوجیوں اور اماموں اور اُٹھا، سویرے صبح یشوع دن اگلے رہے۔ بجاتے نرسنگے امام دوران کے لگانے چکر تھے۔ آدمی مسلح کچھ مزید میں آخر اور امام والے اُٹھانے صندوق کا عہد کے رب پھر امام، والے بجانے نرسنگے

13	וַיִּשְׁבְּעוּ	הַכְּהֲנִים	נִשְׁאִים	שְׁבַעַה	שׁוֹפְרוֹת	הַדְּבָלִים	לְפָנָי	אֲרוֹן	יְהוָה	הַלְלִים
	اور-سات	کابن	اُٹھانے-والے	سات	نرسنگے	جوبلی-کے	آگے	صندوق	یہوواہ-کے	چلنے-والے
	H7651	H3548	H5375	H7651	H7782	H3104	H6440	H0727	H3068	H1980
	چلتے-بوئے	اور-پھونکتے-بوئے	نرسنگوں-میں	اور-مسلح	چلتا-ہوا	آگے-اُن-کے	اور-پچھلا-دستہ	چلتا-ہوا	پیچھے	
	H1980	H8628	H7782	H1980	H1980	H6440	H0622	H1980		
	אֲרוֹן	יְהוָה	הַהוֹלֵךְ	(הָלוֹךְ)	וַתְּקַוְעוּ	בְּשׁוֹפְרוֹת:	וַתְּקַוְעוּ	בְּשׁוֹפְרוֹת:		
	صندوق	یہوواہ-کے	چلتے-بوئے	چلتے-بوئے	اور-پھونکتے-بوئے	نرسنگوں-میں	اور-پھونکتے-بوئے	نرسنگوں-میں		
	H0727	H3068	H1980	H1980	H8628	H7782	H8628	H7782		

سات پھر آدمی، مسلح کچھ پہلے تھی۔ ترتیب وہی کی اُن لگایا۔ چکر کا شہر مرتبہ دوسری نے فوجیوں اور اماموں اور اُٹھا، سویرے صبح یشوع دن اگلے رہے۔ بجاتے نرسنگے امام دوران کے لگانے چکر تھے۔ آدمی مسلح کچھ مزید میں آخر اور امام والے اُٹھانے صندوق کا عہد کے رب پھر امام، والے بجانے نرسنگے

14	וַיִּסְבּוּ	אֶת־	הָעִיר	בְּיוֹם	הַשְּׁנִי	פַּעַם	אַחַת	וַיִּשְׁבּוּ	הַמַּחֲנֶה	כָּה	עָשׂוּ
	اور-چکر-لگایا	کو-	شہر-کے	دن-میں	دوسرے	مرتبہ	ایک	اور-لوٹے	خیمہ-گاہ-میں	ایسے	کیا
	H5437	H0853	H3117	H3117	H8145	H6471	H0259	H7725	H4264	H3541	

שָׁשֶׁת יָמִים:
چھ دنوں-تک
[H8337](#) [H3117](#)

کیا۔ ہی ایسا تک دن چھ نے اُنہوں آئے۔ لوٹ میں گاہ خیمہ کر لگا چکر کا شہر وہ بھی دن دوسرے اِس

15	וַיְהִי	בְּיוֹם	הַשְּׁבִיעִי	וַיִּשְׁכְּמוּ	כַּעֲלוֹת	הַשַּׁחַר	וַיִּסְבּוּ	אֶת־	הָעִיר	כַּמִּשְׁפָּט
	اور-ہوا	دن-میں	ساتویں	اور-اُٹھے-سویرے	طلوع-ہوتے	فجر-کے	اور-چکر-لگایا	کو-	شہر-کے	طریقے-اِس
	H1961	H3117	H7637	H7925	H5927	H7837	H5437	H0853		H4941

הָזָה	שָׁבַע	פַּעַמִּים	רַק	בְּיוֹם	הַהוּא	סָבְבוּ	אֶת־	הָעִיר	שָׁבַע	פַּעַמִּים:
اِس	سات	مرتبہ	صرف	دن-میں	اُس	چکر-لگایا	کو-	شہر-کے	سات	مرتبہ
H2088	H7651	H6471	H7535	H3117	H1931	H5437	H0853		H7651	H6471

لگائے۔ چکر سات گُل نے اُنہوں دفعہ اِس لیکن میں، دنوں چھ پہلے جیسے لگایا یوں چکر کا شہر کر اُٹھ سویرے صبح نے اُنہوں دن ساتویں

16	וַיְהִי	בַּפַּעַם	הַשְּׁבִיעִית	תִּקְעוּ	הַכְּהֲנִים	בְּשׁוֹפְרוֹת	וַיֹּאמְרוּ	יְהוֹשֻׁעַ	אֶל־	הָעָם	הָרִיעוּ
	اور-ہوا	مرتبہ-میں	ساتویں	پھونکا	کابنوں-نے	نرسنگوں-میں	اور-کہا	یشوع-نے	سے-	لوگوں	لکارو
	H1961	H6471	H7637	H8628	H3548	H7782	H0559	H3091	H0413		H7321

כִּי־
کیونکہ-
دیا-ہے
[H5414](#)
یہوواہ-نے
تمہیں
کو-
شہر-کو
[H0853](#)

یہ کو آپ نے رب کیونکہ لگائیں، نعرہ کا جنگ کہا، سے لوگوں نے یشوع تب ماری۔ پھونک سی لمبی بوئے بجاتے کو نرسنگوں نے اماموں پر چکر ساتویں ہے۔ دیا دے شہر

וְהִיָּתָה	הָעִיר	חָרָם	הִיא	וְכָל-	אֲשֶׁר-	בָּהּ	לִיהִוָּה	רַק	רָחֵב	הַזּוֹנָה
اور-ہوگا	شہر	حرام	وہ	اور-سب-	جو-	اُس-میں	یہوواہ-کے-لیے	صرف	راحب	فاحشہ
H1961			H1931	H3605			H3068	H7535	H7343	H2181

תְּחִיָּה	הִיא	וְכָל-	אֲשֶׁר	אֵתָהּ	בְּבֵית	כִּי	הַחֲבָאֲתָהּ	אֶת-	הַמְּלֹאכִים	אֲשֶׁר
زندہ-رے	وہ	اور-سب-	جو	ساتھ-اُس-کے	گھر-میں	کیونکہ	چھپایا-اُس-نے	کو-	قاصدوں	جو
H2421	H1931	H3605		H0854			H2244	H0853	H4397	

שְׁלֹחָנוּ:

بھیجے-ہم-نے
[H7971](#)

ہیں۔ میں گھر کے اُس جو ہے بچانا سمیت لوگوں اُن کو کسبی راحب صرف ہے۔ کرنا مخصوص لئے کے رب کے کر تباہ ہے میں اُس کچھ جو اور کو شہر تھا۔ بھیجا یہاں نے ہم کو جن دیا چھپا کو جاسوسوں اُن ہمارے نے اُس کیونکہ۔

וְרַק-	אֶתֶם	שְׁמָרוּ	מִן-	הַחָרָם	פֶּן-	תִּחְרִימוּ	וְלִקְחֹתֶם	מִן-	הַחָרָם
اور-صرف-	تم	بچو	سے-	حرام	ایسا-نہ-ہو-ک-	حرام-ٹھہراؤ	اور-لے-لو	سے-	حرام
H7535		H8104			H6435		H3947		

וְשָׁמֹתֶם	אֶת-	מַחֲנֶה	יִשְׂרָאֵל	לְחָרָם	וַעֲבַרְתֶּם	אוֹתוֹ:
اور-کر-دو	کو-	خیمہ-گاہ	اسرائیل-کی	حرام	اور-مصیبت-میں-ڈالو	اُسے
H0853		H4264	H3478		H5916	H0853

بھی پر گاہ خیمہ اسرائیلی بلکہ گے کریں تباہ کو آپ اپنے تو لیں لے کچھ سے میں اُن آپ اگر کیونکہ لگانا، نہ ہاتھ کو چیزوں مخصوص لئے کے اللہ لیکن گے۔ لائیں آفت اور تباہی

וְכָל	כֶּסֶף	וְזָהָב	וְכָלִי	נְחֹשֶׁת	וּבְרִזָּה	קָדָשׁ	הוּא	לִיהִוָּה	אוֹצֵר
اور-سب	چاندی	اور-سونا	اور-برتن	تانبے-کے	اور-لوہے-کے	مقدس	ہے	یہوواہ-کے-لیے	خزانے-میں
H3605	H3701	H2091	H3627		H1270	H6944	H1931	H3068	H0214

יְהוָה
یہوواہ-کے
[H0935](#)
[H3068](#)

ہے۔ ڈالنا میں خزانے کے رب اُسے ہے۔ مخصوص لئے کے رب وہ ہے بنا سے لوہے یا پیتل سونے، چاندی، بھی کچھ جو

וַיֵּרַע	הָעָם	וַיִּתְקַעוּ	בַּשִּׁפְרוֹת	וַיְהִי	כַשְׁמַע	הָעָם	אֶת-	קוֹל	הַשּׁוֹפָר
اور-لکارا	لوگوں-نے	اور-پھونکا	نرسنگوں-میں	اور-ہوا	جب-سنا	لوگوں-نے	کو-	آواز	نرسنگے-کی
H7321		H8628	H7782	H1961	H8085		H0853		H7782

וַיִּרְעוּ	הָעָם	תְּרוּעָה	גְּדוֹלָה	וַתִּפֹּל	הַחֹמָה	תַּחְתֶּיהָ	וַיַּעַל	הָעָם	הָעִירָה	אִישׁ
اور-لکارا	لوگوں-نے	لکار	بڑی	اور-گر-گئی	دیوار	نیچے-اپنی	اور-چڑھے	لوگ	شہر-میں	آدمی
H7321		H8643		H5307	H2346	H8478	H5927			H0376

נָגְדוּ
سامنے-اپنے
[H5048](#)
اور-لے-لیا
[H3920](#)
اَת-
شہر-کو
[H0853](#)

سیدھا پر جگہ اپنی اپنی شخص ہر اور گئی، گر فصیل کی پریحو اچانک لگائے۔ نعرے زوردار کے جنگ نے اسرائیلیوں تو ماری پھونک لمبی نے اماموں جب گیا۔ آ میں قبضے کے اسرائیل شہر یوں ہوا۔ داخل میں شہر

וַיַּחְרִימוּ	אֶת-	כָּל-	אֲשֶׁר	בְּעִיר	מֵאִישׁ	וְעַד-	אִשָּׁה	מִנְעַר	וְעַד-	זָקֵן
اور-حرام-کیا	کو-	سب-	جو	شہر-میں	مرد-سے	اور-تک-	عورت	جوان-سے	اور-تک-	بوڑھے
H0853		H3605			H0376	H5704	H0802	H5288	H5704	H2205

וְעַד
اور-تک
[H5704](#)
بیل
اور-بھیڑ
[H7716](#)
وְשָׂה
اور-گدھے
[H2543](#)
לְפִי-
دھار-سے-
[H6310](#)
חָרָב:
تلوار-کی
[H2719](#)

تھا۔ گدھا یا بھیڑکری گائے بیل، بزرگ، یا جوان عورت، یا مرد خواہ کیا، مخصوص لئے کے رب کر مار سے تلوار نے اُنہوں اُسے تھا میں شہر بھی کچھ جو

22 וְלִשְׁנַיִם הָאֲנָשִׁים הַמְרַגְלִים אֶת-הָאָרֶץ אָמַר יְהוֹשֻׁעַ בָּאוּ בֵּית-הָאִשָּׁה הַזֹּנָה
 اور-دو آدمیوں جاسوسوں کو- زمین-کے کہا یسوع-نے جاؤ گھر-میں- عورت فاحشہ-کے
[H8147](#) [H0376](#) [H7270](#) [H0853](#) [H0776](#) [H0559](#) [H3091](#) [H0935](#) [H0802](#) [H2181](#)

וְהוֹצִיאُوּ אֶת-הָאִשָּׁה וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-לָהּ כְּאִשָּׁר נִשְׁבַּעְתָּם לָהּ:
 اور-نکالو وہاں-سے کو- عورت-کو اور-کو- سب- جو- اس-کا جیسا قسم-کھائی-تم-نے اس-سے
[H3318](#) [H8033](#) [H0853](#) [H0802](#) [H0853](#) [H3605](#) [H0853](#) [H7650](#)

گھر تمام کے اس اور اُسے کر جا میں گھر کے کسبی کریں۔ پورا وعدہ کا قسم اپنی اب کہا، نے یسوع سے ان تھی کی جاسوسی کی ملک نے آدمیوں دو جن لائیں۔ نکال کو والوں

23 וַיָּבֹאוּ הַנְּעָרִים הַמְרַגְלִים וַיִּצְיָאוּ אֶת-רָחֵב אֶת-אָבִיָּה וְאֶת-אִמָּה וְאֶת-אֹרְאֵי
 اور-آئے جوان جاسوس اور-نکالا کو- راحب اور-کو- باپ-اس-کے اور-کو- ماں-اس-کی اور-کو-
[H0935](#) [H5288](#) [H7270](#) [H3318](#) [H0853](#) [H7343](#) [H0853](#) [H0001](#) [H0853](#) [H0517](#) [H0853](#)

بھائیوں-اس-کے اور-کو- سب- جو- اس-کا اور-کو- سب- خاندانوں-اس-کے نکالا اور-ٹھہرایا مہوین
[H0251](#) [H0853](#) [H3605](#) [H0853](#) [H3605](#) [H0853](#) [H4940](#) [H3318](#) [H3240](#) [H2351](#)

لְמַחֲנֶה יִשְׂרָאֵל:
 خیمہ-گاہ-کے اسرائیل-کے
[H4264](#) [H3478](#)

دیا۔ بسا کہیں باہر سے گاہ خیمہ کر نکال سمیت ملکیت کی اس کو داروں رشتے باقی اور بھائیوں باپ، ماں کے اس راحب، اور گئے آدمی جوان یہ چنانچہ

24 וְהָעִיר וְהַשָּׁהָרِ כָּאִשׁ וְכָל-אֲשֶׁר-בָּהּ אֶת-כָּסָף וְהַזָּהָב וְכָל-הַחֲנוּטֵי
 اور-شہر-کو جلايا آگ-سے اور-سب- جو- اس-میں بڑھ صرف چاندی اور-سونا اور-برتن تانبے-کے
[H8313](#) [H0784](#) [H3605](#) [H0853](#) [H7535](#) [H3701](#) [H2091](#) [H3627](#)

وְהַבְרִזָּל וְהַלּוּבֵי-כֶּסֶף אֶת-خְזָאֵי-مִיִּן
 اور-لوہے-کے دیے خزانے-میں گھر-کے- یہوواہ-کے
[H1270](#) [H5414](#) [H0214](#) [H3068](#)

ڈال میں خزانے کے گھر کے رب نے انہوں مال تمام کا لوہے اور پیتل سونے، چاندی، لیکن دیا۔ کر بھسم تھا میں اس کچھ جو اور کو شہر پورے نے انہوں پھر دیا۔

25 וְאֶת-רָחֵב הַזֹּנָה וְאֶת-בֵּית אֲשֶׁר-לָהּ הַחֲתָנָה יְהוֹשֻׁעַ
 اور-کو- راحب فاحشہ اور-کو- گھر باپ-اس-کے اور-کو- سب- جو- اس-کا زندہ-رکھا یسوع-نے
[H0853](#) [H7343](#) [H2181](#) [H0853](#) [H0001](#) [H0853](#) [H3605](#) [H2421](#) [H3091](#)

וְהַנְּשִׁבִים וְהַדְּרִימָיִם אֶת-יִשְׂרָאֵל עַד-הַיּוֹם הַזֶּה כִּי-הָבִיֵּא אֶת-הַמְּלָאכִים אֲשֶׁר-
 اور-ربی درمیان-میں اسرائیل-کے تک دن اس-کے کیونکہ چھپایا-اس-نے کو- قاصدوں
[H3427](#) [H7130](#) [H3478](#) [H5704](#) [H3117](#) [H2088](#) [H2244](#) [H0853](#) [H4397](#)

שָׁלַח יְהוֹשֻׁעַ לְרַגְלָאֵת-יְרִיחוֹ:
 بھیجا یسوع-نے جاسوسی-کرنے کو- یریحو-کی
[H7971](#) [H3091](#) [H7270](#) [H0853](#) [H3405](#)

آج راحب تھا۔ بھیجا یریحو نے یسوع جنہیں تھا دیا چھپا کو آدمیوں ان نے اس کیونکہ رکھا، بجائے کو والوں گھر کے اس اور کسبی راحب صرف نے یسوع ہے۔ رہتی درمیان کے اسرائیلیوں تک

יָקוֹם	אֲשֶׁר	יְהוָה	לְפָנַי	הָאִישׁ	אֲרוּר	לְאִמֶּר	הָהֵיא	בְּעֵת	יְהוֹשֻׁעַ	וַיִּשְׁבַּע
اُنْهَى	جو	یہوواہ-کے	سامنے	آدمی-وہ	ملعون	کہتے-ہوئے	اُس	وقت-میں	یشوع-نے	اور-قسم-دلائی
		H3068	H6440	H0376	H0779	H0559	H1931	H6256	H3091	H7650

וּבְצַעֲרוֹ	וַיִּסְדֹּךָ	בְּכַזְרוֹ	יְרִיחוֹ	אֶת-	הַזֹּאת	הָעִיר	אֶת-	וּבָנָה
اور-چھوٹے-سے-اپنے	بنیاد-ڈالے-گا-اُس-کی	پہلوٹھے-سے-اپنے	یریحو	کو-	اِس	شہر	کو-	اور-بنائے
H6810	H3245	H1060	H3405	H0853	H2063		H0853	H1129

יָצִיב
 דְּלִתְיָהּ:
 کھڑے-کرے-گا
 دروازے-اُس-کے
[H5324](#)

اپنے وہ وقت رکھتے بنیاد کی شہر کرے۔ کوشش کی کرنے تعمیر سے سرے نئے شہر کا یریحو جو ہو پر اُس لعنت کی [] رب کھائی، قسّم نے یشوع وقت اُس گا۔ [] بیٹھے دھو ہاتھ سے بیٹے چھوٹے سے سب اپنے وہ وقت کرتے کھڑا کو دروازوں کے اُس اور گا، جائے ہو محروم سے پہلوٹھے

27	יְהוָה	יְהוָה	אֶת-	יְהוֹשֻׁעַ	יְהוָה	שָׁמְעוּ	בְּכֹל-	הָאָרֶץ:
	اور-تھا	یہوواہ	ساتھ-	یشوع-کے	اور-تھی	شہرت-اُس-کی	ساری-	زمین-میں
	H1961	H3068	H0854	H3091	H1961	H8089	H3605	H0776

گئی۔ پھیل میں ملک پورے شہرت کی اُس اور تھا، ساتھ کے یشوع رب یوں